

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝

حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے رسولو! تم کو کیا مسم در پیش ہے؟

قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ

انہوں نے عرض کی کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ انہر متی کے

جِجَارَةَ مِنْ طِينٍ ۝ مَسْؤْمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝

پتھر برسائیں جو آپ کو ہر وردگار کے پاس حد سے زیادہ گزبانوالوں کو لیے نشان کی ہو کر تارا یا

فَاخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا

پس ان (پستوں) میں مومنوں میں سے کوئی تھا اسے ہم نے نکال دیا۔ اور ہم نے ان میں نماں جو ازل

فِيهَا غَيْرِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

میں ایک گھر کے سوا اور کسی کو نہ پایا اور ہم نے ان میں ان لوگوں کے

لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ

لیے جو دردناک عذاب سے ڈرے ایک نشانی چھوڑ دی۔ اور اسی طرح واقعہ (موسے) میں (نشانی) ہے

أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۝ فَتَوَلَّىٰ ظَهْرَهُ

جبکہ ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلے قلب کے ساتھ بھیجا پس اس نے اپنے برتنے پر

وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ

روڈانی کی اور گنہگار کیا (جادو گر ہے یا پران۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو دھر چوکھا اور ان سب کو ستر

فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ

پس بوالہیا جس میں کہ وہ (فرعون) انہی آپ ہی کو برکتا تھا۔ اور اسی طرح واقعہ (قوم عاد) میں (نشانی) ہے جبکہ ہم نے آپ کو ایک

الْعَقِيمَ ۝ مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ


سختی نہ ہی بھی کہ جس چیز پر وہ پہنچتی تھی اس کو چوراکے بغیر نہ چھوڑتی

كَالرَّمِيمِ ۝ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُم تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ

تھی۔ اور (واقعہ) ثمود میں (بھی نشانی) ہے جبکہ ان سے یہ کہا گیا کہ ایک مدت (میتہ) تک نفع اٹھاؤ



Handwritten marginal notes in Arabic script, providing commentary or additional information related to the main text.



Handwritten marginal notes in Arabic script, continuing the commentary from the previous section.

Extensive handwritten marginal notes in Arabic script at the bottom of the page, covering the width of the page.

المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

اور میں نے جنوں کو اور آدمیوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کیا کریں۔

ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون

میں ان سے کوئی روزی تو نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیا کریں۔

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين

بیشک اللہ وہی تو بڑا روزی دینے والا (اور) زبردست ہے۔ پس یقیناً ان لوگوں کے لیے

ظلموا ذنوباً مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعملون

جنوں کو نافرمانی کی جو سیاہی چوسا بھرا ہوا ہے (یعنی آتشاوی عذاب ہی جیسا کہ انکو (پہلے) ہم تیرہ لوگوں کو چوسا بھرا تھا)

قویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون

یہ کہنے والے ہیں ان لوگوں کے جو اس دن کو سنیں کہ ان کو وعدہ کیا جاتا ہے۔

سورة الطور مکیة وحی تسع واربعون آیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن (وا) رحیم خدا کے نام سے (شرح کرتا ہوں)

والطور وکتب مسطور فی رقی منشور

قسم ہے طور کی۔ اور پھیلی ہوئی جبل میں لکھی ہوئی کتاب کی

والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور

اور بیت المعمور کی اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے

دافع یوم تموم السماء مورا وتسير الجمال

نہو گا جس دن کہ آسمان بڑے زور سے چکر کھا بیگا اور پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a decorative floral emblem with the text 'ایمان' (Iman) and 'توکل' (Tawakkul).

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the number '۴' and '۳۰'.

یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہیں اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے۔

سَيَرَا قَوْلِ يَوْمِ لِلْمُكذِبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي

ناہود ہو جائیں گے تو اس دن جھٹلائیوں کے لیے جو نوبتوں میں پڑے کیلا کرتے

خَوْصٌ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً

ہیں وہیل ہو گا اور جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکے پڑھکے دیے جائیں گے (اور یہ جہلا یا جہلاگا)

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِبُونَ اَفَسِحْرَ هَذَا ام

یہ آگ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب (بتلاؤ) آیا یہ جادو ہے یا تم کو

انتم لا تبصرون اِصْلَوْهَا فاصيروا اَوْ لا تصيروا

سو جھتی ہی نہیں؟ اب تم اس میں گھس جاؤ خواہ تم برداشت کرو یا نہ برداشت کرو

سواء عَلَيْكُمْ طَرِيقًا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

تمہارے لیے یکساں ہے۔ جو عمل تم کیا کرتے تھے صرف اسی کا بر لا تم کو دیا جاوے۔

ان المتقين في جناتٍ و نعيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا اَنْتَهُمْ

بیشک پر ہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں جو (جو) کچھ ان کے پروردگار نے انکو دیا ہو گا اسی لذت میں

رَبَّهُمْ وَ وَفَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ اَلْحَدِيدِ كُلُّوا

پاتے ہونگے۔ انکا پروردگار ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لینگا۔ (اور ان کو یہ فرمایا گیا کہ) چول

واشربوا هَيْهَاتَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَكِينٍ عَلٰى سُرُرٍ

تم کیا کرتے تھے اُسکے عوض میں (خوب) کھاؤ پو (تمکو) ہرچے پچے۔ (اور) برابر بیٹھے ہوئے تختوں پر

مَصْفُوفَةٍ وَ زَوْجَنَّهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

تینے لگا سہیٹھے، رہو۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں، تم انکی شادیاں کر دینگے۔ اور جو لوگ ایمان لائے

وَ اتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِالْاِيْمَانِ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

اور ان کی اولاد لے ایمان میں انکی پیروی کی ان کی اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دینگے

وَ مَا اَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِيٍّ بِمَا

اور انکے اعمال (نیک) میں سے کچھ (کبھی) کم نہ کرینگے۔ ہر شخص اپنے لیے (کی) جواب دہی ہیں

وقن لا زلم

سَلَامٌ

یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہیں اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے۔

كَسَبَ رَهِيْنًا ۝ وَاَمَدَدْنٰهُمْ بِقَاكِهَةٍ وَاَحْمَرٍ
گرفتار ہوگا۔ اور ہم ان کو بیویوں سے اور گوشت سے جو (چ) کچھ دے

مَتَا يَشْتَهُونَ ۝ يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لُغْوًا
جائیںے مردہ کیے۔ جنت میں وہ آپس میں ایسے پیالے کی چھین چھٹ کر کے جس میں

فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غُلَمَانٌ
نکوئی نفیست ہوگی اور نہ کوئی گناہ۔ اور ان کے وہ غلام جو چھپے ہوئے سوتیوں کے مانند

لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْ لَوْ مَكْنُونٌ ۝ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰ
ہونے ان کی خدمت میں چکر لگایا کرے۔ اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر

بَعْضٌ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۝ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِيْ اَهْلِ نَارِ
وہ سوالات کیا کرے۔ (بعض) کہنے کہ اس سے پہلے ہم تو اپنے بال بچوں میں تھے اور

مُشْفِقِيْنَ ۝ فَمَنْ لِّلّٰهِ عَلَيْنَا وَاَوْقِنَا عَذَابَ
ڈرتے ہی رہتے تھے۔ پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو جہنم کے عذاب سے

السَّمٰوٰتِ ۝ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ وَاِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ
بچایا۔ ہم تو اس سے پہلے اس سے دعا میں مانگا کرتے تھے بیشک وہ پراسی کر نیوالا

الرَّحِيْمُ ۝ فَذَكَرْنَا نِعْمَتَ رَبِّكَ يٰ كَاھِنِ وَلَا
(اور) تم کو نیوالا ہے۔ پس (اے رسول) ہم نیت کے جاؤ تم اپنی پروردگار کو فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ

مَجْنُوْنٍ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ تَتَّبِعُ بِهٖ رِيْبَ
دیوانے۔ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پشاور ہے جس کے بارے میں ہم زمانہ کی گردش کا انتظار

الْمُنٰوِنِ ۝ قُلْ تَرَبُّوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَبِصِيْنَ ۝
کرتے ہیں و تم کہو کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر نیوالوں میں ہوں۔

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اِحْلَامُهُمْ ۝ هٰذَا اَمْرُهُمْ طَاغُوْنَ ۝
آیا ان کی عقلیں ان کو ایسا ہی بتلاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں و

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'سنگل' written vertically.

Handwritten marginal note.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

غیر متان میں ہے کہ ان کے کمر کا وبال ان پر ہے پھر اگر جس کے دن وہ قتل کے گئے: ۱۲۔ ۱۱۔ ۱۰۔ ۹۔ ۸۔ ۷۔ ۶۔ ۵۔ ۴۔ ۳۔ ۲۔ ۱۔
 کئی ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا ہے اور ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔
 کئی ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا ہے اور ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔
 کئی ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا ہے اور ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔

قال فاعظيكم

الطه

أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ ۗ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلْيَا تَوَّأ

یا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پر تو اللہ کی تعظیم ہی ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لکھتے۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں تو

يُحَدِّثُ مِثْلَهُ ۗ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۚ أَمْ خَلْقُوا مِنَ

وہ بھی؟ کئی ایسی باتیں بنا لیں۔ آیا وہ بغیر کسی چیز کے خود پیدا

غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۚ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ

ہو گئے ہیں یا وہ (اپنے آپ کو) پیدا کر نیا لے ہیں؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا

وَالْأَرْضَ ۗ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ۚ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ

کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں وہ یقین ہی نہیں لکھتے۔ آیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے

أَمْ هُمُ الصَّيْطُورُ ۚ أَمْ لَهُمْ سُلْحَابٌ يَسْمَعُونَ فِيهَا

یا وہ داروغہ ہیں؟ یا ان کو پاس کوئی سیڑھی ہے جو اوپر چڑھ کر وہ آسمان کی خبریں سنی

فَلْيَأْتِ مُسْتَعْتَبِينَ ۚ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ

ایسا ہے تو ان کا سننے والا بھی کئی کھلی دلیل لے آئے۔ یا خدا کی بیٹیاں ہیں

وَلَكُمْ الْبَنُونَ ۚ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ

اور تمہارے بیٹے؟ یا تم ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہو جس کے بوجھ سے وہ دیے جاتے

مَثْقَلُونَ ۚ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ ۚ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۚ أَمْ

ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جس کو وہ لکھتے جاتے ہیں؟ یا

يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ۚ أَمْ

وہ تم سے کوئی چال چلتے ہیں۔ پس جو لوگ کافر ہو گئے چال میں تو وہ خود ہی پھنس گئے ہیں۔ یا خدا کو

لَهُمْ لَهُ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَلَنْ نَمُرُّوا

سوا انہا کوئی اور معبود ہے۔ جو جن کو یہ اسکا شریک ٹھہراتے ہیں خدا ایسا ہی ذات ان سے منزہ ہے۔ اور ان کوئی آسمان

كُفَّاءٍ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۚ فَذَرْهُمْ

کا ٹکڑا اگر تا ہوا دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ تو جاہوا بادل ہے۔ سو تم ان کو رہنے دو

مائل

کئی قریب کا ایک قول تھا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اور اس سے انکی حاققت ثابت ہوتی ہے اور یہ کج میں آتا ہے کہ
 خدا سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو سزا دیا جائے تو وہ کون سا چیز ہے۔ اور اگر سزا دیا جائے تو وہ کون سا چیز ہے۔

حَقٌّ يَلْقَوْنَ أَيُّومَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي

یہاں تک کہ وہ دن اُنکے سامنے اُنکے جس دن وہ بیہوش کر دیے جائیں گے۔ جس دن اُن کی مال ذرا بھی

عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

اُن کے کام نہ آئیں اور نہ اُنکی مدد کی جائیگی۔ اور بیشک اُن لوگوں کے

ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

و اسے جنہوں نے ظلم کیا اس کے علاوہ بھی عذاب ہے لیکن اُن میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

اور تم اپنی مرد و کار کو تم کے بارے میں مہر کر دو یعنی تم ہماری حفاظت میں ہو اور حق قسم (نور شب کی آغوش) اپنے

حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

پورے دن کی صبح کی سبج پڑھا کرو۔ اور رات کے کسی حصہ میں بھی اور ستاروں کے ڈوبنے وقت بھی

سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَا وَسِتُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

وَالنَّجْمِ إِذْ هُوَ ذَاهِبٌ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝

قسم ہے ستارے کی جس وقت کہ وہ اُترتا تمہارا رفیق نہ بٹک گیا ہے اور نہ بہکا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

اور وہ خواہش نفسانی سے کچھ نہیں کہتا۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ نہیں جو کہ وہی جو اسکی طرف بھیجی جاتی ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ

اسکو بھی تو تیز اور بڑی عقل والے نے تعلیم کیا۔ پھر وہ گھڑا ہو گیا جس حال میں کہو

بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ

قوس کے سے اور آفاق کے قریب تھا۔ پھر وہ اور قریب ہوا پھر ملنے پڑ گیا۔ پھر وہ کمان کا قاصد



Extensive marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and translations.

وَالْأُولَىٰ ۚ وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي

کائنات ہی مالک ہے۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ

مچھ کام نہ آئیگی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجازت دیدے اور پسند کرے

وَمَرْضَىٰ ۚ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيْسُمُونَ

فرما لے۔ بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام

الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ۚ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ

عورتوں کے ایسے نام رکھتے ہیں۔ اور اس بارے میں انکو علم ناک بھی نہیں ہے۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

وہ نسی اکل پر چلتے ہیں۔ حالانکہ اکل حق کے مقابلے میں مچھ بھی کام نہیں دے سکتی۔

شَيْئًا ۚ فَا عَرِضٌ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هُ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ

پس جس نے ہماری یاد سے منہ پھرا لیا ہے اور سوائے زندگانی دنیا کے اور کسی چیز کو خواہ

إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ

ہی نہیں جو بس تم بھی اس کو منہ پھرا لو۔ ان کے علم کی انتہا اتنی ہی ہے۔ بیشک تمہارا

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

پروردگار اُس سے (بھی) خوب واقف ہے جو اسکی راہ سے بھٹک گیا ہے اور اُس سے بھی آگاہ ہے

أَهْتَدَىٰ ۚ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ

جسے ہدایت پائی ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہونا کہ وہ انکو

الَّذِينَ اسَاءُوا وَايساء عملوا وَيَجْزِي الَّذِينَ احسنوا

جنہوں نے بدی کی ہے اکی کر تو تکی سزا دے اور انکو جنہوں نے نیکی کی ہے نیک

بِالْحَسَنَىٰ ۚ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ

جواز سے۔ کبیرہ گناہوں سے اور بچائی کی باتوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں

۵۰

رب

رب

وَالَّذِينَ اسَاءُوا وَايساء عملوا وَيَجْزِي الَّذِينَ احسنوا

۵۰

اَلَا لَمَمَدَانِ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَهُوَ اعْلَمُ بِكُمْ اِذَا

کوزیرہ سے نہ کریں۔ بیشک تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تمہارے حال سے اسوقت بھی خوب

اَشَاكُمْ مِنْ اَلْاَرْضِ وَاِذَا انْتُمْ اِحْتَجُّونَ فِي بَطُونِ

واقف تھا جبکہ اُسے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اُس وقت بھی جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں

اَهْتَمَّتْكُمْ فَلَا تَزْكُوا اَنْفُسَكُمْ وَهُوَ اعْلَمُ بِمَنْ اَتَى

بنین ہے۔ پس تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ جو پرہیزگار ہے اُس سے خدا خوب واقف ہے۔

اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تُوَلَّى وَاَعْطَى قَلِيلاً وَاَكْثَرَ اَعْتَدَ

آیات نے اُس شخص کو غور سے دیکھا جس نے حق سے کہو گردانی کی۔ اور تمہارا خرچ کیا اور ہاتھ دکھایا کیا علم غیب

عِلْمُ الْغَيْبِ فَهِيَ يَرَى اَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ

اُس کے پاس ہے کہ وہ (اُس) سمجھ لیتا ہے۔ یا اسکو اُسکی خبر نہیں دی گئی جو کہ مومنانے کے صحیفوں

مُوسَى وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِي وَفَّى اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

میں ہے اور برابر ابرہیم کے جنوں نے (حق اطاعت) پورا پورا اور اگر دیکھا (یعنی) یہ کہ کوئی بوجھ اٹھائیے اور دوسرا

اٰخَرِي وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ

بوجھ نہ اٹھائیے گا۔ اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوا اُسنے کوشش کی ہو۔ اور یہ کہ اسکی

سَعْيَةٍ سَوْفَ يَرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى وَاَنْ

کوشش آگے چل کر دیکھی جائیگی۔ پھر اُس کو اُسکا بدلہ پورا پورا دیا جائیگا اور یہ کہ

لَا لِی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی وَاِنَّهُ هُوَ اَضْحٰکُ وَاَبْکٰی وَاِنَّهٗ

انتہا تمہارے پروردگار ہی کی حضور میں ہوگی۔ اور یہ کہ اُسی نے ہنسیا یا اور رُلیا۔ اور یہ کہ

هُوَ اَمَاتٌ وَاَحْيٰی وَاِنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجٰیْنَ الذَّکَرَ

اُسی نے مارا اور جلایا۔ اور یہ کہ نطفے سے جب وہ (درم میں) پہنچا دیا گیا اُسی نے

وَالْاُنثٰی مِنْ نطفَةٍ اِذَا تَمَنَّى وَاَنْ عَلَیْهٖ

دونو قسمیں نر و مادہ پیدا کیے۔ اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا

میں ہے اور برابر ابرہیم کے جنوں نے (حق اطاعت) پورا پورا اور اگر دیکھا (یعنی) یہ کہ کوئی بوجھ اٹھائیے اور دوسرا بوجھ نہ اٹھائیے گا۔ اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوا اُسنے کوشش کی ہو۔ اور یہ کہ اسکی کوشش آگے چل کر دیکھی جائیگی۔ پھر اُس کو اُسکا بدلہ پورا پورا دیا جائیگا اور یہ کہ انتہا تمہارے پروردگار ہی کی حضور میں ہوگی۔ اور یہ کہ اُسی نے ہنسیا یا اور رُلیا۔ اور یہ کہ اُسی نے مارا اور جلایا۔ اور یہ کہ نطفے سے جب وہ (درم میں) پہنچا دیا گیا اُسی نے دونو قسمیں نر و مادہ پیدا کیے۔ اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا

میں ہے اور برابر ابرہیم کے جنوں نے (حق اطاعت) پورا پورا اور اگر دیکھا (یعنی) یہ کہ کوئی بوجھ اٹھائیے اور دوسرا بوجھ نہ اٹھائیے گا۔ اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوا اُسنے کوشش کی ہو۔ اور یہ کہ اسکی کوشش آگے چل کر دیکھی جائیگی۔ پھر اُس کو اُسکا بدلہ پورا پورا دیا جائیگا اور یہ کہ انتہا تمہارے پروردگار ہی کی حضور میں ہوگی۔ اور یہ کہ اُسی نے ہنسیا یا اور رُلیا۔ اور یہ کہ اُسی نے مارا اور جلایا۔ اور یہ کہ نطفے سے جب وہ (درم میں) پہنچا دیا گیا اُسی نے دونو قسمیں نر و مادہ پیدا کیے۔ اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا

النَّشَاةُ الْآخِرَىٰ ۖ وَآتَةٌ هُوَ اعْتَىٰ وَاقْتَىٰ ۖ وَآتَةٌ هُوَ

اسی کے ذمے ہے۔ اور یہ کہ اسی نے مالدار اور صاحب ثروت بنایا۔ اور یہ کہ وہی (شاہ کا)

رَبُّ الشُّعْرَىٰ ۖ وَآتَةٌ أَهْلَكَ عَادًا لِإِعْتَابٍ ۖ وَتَمُودًا

شعزے کا مالک ہے۔ اور یہ کہ اسی کے پہلے عاد کو ہلاک کیا اور تمود کو اس طرح

فَمَا أَبْقَىٰ ۖ وَقَوْمَ لُوطٍ مِّنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

کس کو باقی نہ چھوڑا۔ اور لوط کی قوم کو (ان سے) چھلے ہی کہ قیسا وہ بڑے ظالم اور بڑے

وَاطْغَىٰ ۖ وَالْمَوْتِقَةَ أَهْوَىٰ ۖ فَغَسَّهَا مَا عَشَىٰ ۖ فَبَايَ

سرکش تھے۔ اور اٹھی ہوئی بستریوں کو اسی نے دس بچھا۔ پھر ان پر گزری جو کھ گزری۔ پس پہلی پروردگار کا

الْأَوَّلُ ۖ رَبُّكَ تَتَمَارَىٰ ۖ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولِ

کی کون کونسی نعمتوں میں شک کرتے ہوئے یہ تو پہلے ڈرائیوالوں میں سے ایک ڈرائیوالا ہے۔

أَرَفَتْ بِالْأَزْفَةِ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۖ

آئیوالی قریب آہنجی۔ اللہ کے سوا اس کا ٹٹانے والا کوئی نہیں ہے۔

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۖ وَتَضْحَكُونَ وَلَا

کیا تم اس بات سے تعجب کرنے ہو اور ہنسنے ہو اور رونے

تَبْكُونَ ۖ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۖ فَاسْبُدُوا لِلَّهِ وَعِبُدُوهُ

نہیں۔ اور تم کہیں کو دین میں لگے ہوئے ہو پھر اس خدا کو واسطے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو

سُبُّهُ الْقَمَرُ مَكْتَبَةٌ وَهِيَ حَمِيمٌ وَحَمِيمٌ آيَةٌ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (شروع کرتا ہوں)

وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُ الْقَمَرُ ۖ وَإِنْ يَسِرَّوْا

قیامت قریب آئی اور چاند شق ہو گیا۔ اور اگر یہ لوگ کوئی سمجھ جائی

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text.



اٰیة یَعْرِضُوْا یَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ ۝ وَكَذَّبُوْا وَاَتَّبَعُوْا

اِهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَمَرٌّ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ

الْاَنْبِیَاءِ مَا فِیْهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بِاللِّغَةِ فَمَا تَعْنُ

النَّذٰرَ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدّٰعِ اِلٰی شَیْءٍ نَّكَرٍ

خَشِعًا اَبْصَارُهُمْ یَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ کَاَنْهَمْ جُرَادٌ

مُنْتَشِرٌ ۝ مُّوْطِعِیْنَ اِلٰی الدّٰعِ یَقُوْلُ الْکٰفِرُوْنَ

هٰذَا یَوْمٌ عَسِرٌ ۝ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَلْکَذَّبُوْا

عِبْدَانَا وَقَالُوْا فَجَنُوْنَ ۝ وَاَزْدُجِرَ ۝ فَدَعَارَتْهُ اَنۡی

مَغْلُوْبٌ فَانْتَصَرَ ۝ فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ بِمَاءٍ

مِنْهُمْ ۝ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عَیۡوَانًا فَالتَّقٰی الْمَآءُ عَلٰی

اَمْرٍ قَدَقَدَرۡتْ ۝ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰی ذَاتِ الْاَوَآجِ ۝ وَدَسَّرۡنَا

الْاَسۡمَانَ کَمَا یَاۡتِیۡ سَعۡیۡرًا ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدّٰعِ اِلٰی شَیْءٍ نَّكَرٍ

مِنْهُمْ ۝ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عَیۡوَانًا فَالتَّقٰی الْمَآءُ عَلٰی اَمْرٍ قَدَقَدَرۡتْ ۝ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰی ذَاتِ الْاَوَآجِ ۝ وَدَسَّرۡنَا

وقف لا یقر

مشکل

ان میں سے اور وہ جس کی طرف سے انہوں نے جھٹلایا تھا اس میں انہوں نے ہمارے
یہ دن تو بڑا ہی گھٹن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا پس انہوں نے ہمارے
عبدانہوں کی کذب کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ تو دیوانہ اور سقا یا ہوا ہے۔ پس انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
مغلوب ہو گیا اب تو انتقام لے لے۔ پس ہم نے موسلا دار پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے
میں سے پانی کو نازل کیا اور زمین کو بھرا کر پانی ہی بنے کر دیے پس اس امر کے بوجھ ہو یقیناً مگر دیا گیا
امر قد قدرت و حملنہ علی ذات الواج و دسرنا
تھا آسمان کی پانی سے (زمین کا پانی مل گیا اور ہم اس (نوح) کو تختوں اور کلبوں والی (میں کشتی) پر اترنے کا حکم دیا۔

اور ایک زوایت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں اور ان کے منہ پر اینس جس سے ان کے چہرے بگڑ گئے اور اس شہر کے کل بچوں والے اندھ بچے

قال فما خطبکم

القسم

الْكَذَّابُ الْأَشْرُؤُ إِنَّمَا مَرُّ سِلْوًا فَتَنَةٌ لَهُمْ

یعنی خورہ کون ہے؟ ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک ساڈنی بھیجے والے ہیں

فَأَرْقِبِهِمْ وَأَصْطَبِرْهُ وَتَبَيَّنْهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ

پس تم ان کے نراں رہو اور برداشت کرو۔ اور انکو یہ خبر دیدو کہ ان کے (اور انہیں) کا مین پانی تقسیم ہو گیا ہے تو

بَيْنَهُمْ كُلٌّ شَرْبٌ مَّحْتَضِرٌ فَنَادُوا أَصْحَابِهِمْ فَعَاطَى

ہر ایک (فریق اپنی اپنی) باری پر حاضر ہو۔ پھر انہوں نے اپنے رفیق کو پکارا پھر اسے ہاتھ چلایا پھر اسکی کوچیں

فَعَقَرُوهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي إِنَّمَا أَرْسَلْنَا

کاش دیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا رہا؟ یقیناً ہم نے ان پر ایک چیخ

عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا الْكٰهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ وَقَدْ

بھینچے پھر وہ روندے ہوئے خشک جمع شدہ بھوسے کے مانند ہو گئے اور ہم نے

يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كَفَرْنَا مِنْ مِّمَّا كَذَّبَتْ قَوْمُ

تیسیت حاصل کرینکے لیے اس قرآن کو یقیناً آسان کر دیا ہے تو آیا کوئی نصیحت پڑھتا ہے؟ ٹوٹ کی قوم نے ابھی

لَوْطٍ بِالَّذِي نَذَرْنَا إِنَّمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ

ڈرائیوالی باتوں کو چھٹلایا۔ یقیناً ہم نے انپر پھراؤ بھیجا (اور) ٹوٹ کے گئے کوٹنے

لَوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ نَّعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ

کیا انکو ہم نے سحری کو وقت نجات دیدی۔ یہ ہماری طرف سے ایک احسان تھا اور جو شکر گزار ہوتا ہے

نَجَّيْنَا مِنْ شُكْرِهِمْ وَقَدْ أَنْذَرْنَاهُمْ بُطْشَتَنَا فَمَارُوا

ہم انکو ایسا ہی عوض دیا کرتے ہیں۔ اور لوٹنے ضرور انکو ہماری گرفت سے ڈرایا تھا پھر انہوں نے ڈرانے میں

بِالنَّذِيرِ وَقَدْ رَأَوْهُ عَنِ ضَيْفِهِ فطمسنا

شک کیا۔ اور انہوں نے ضرور ان کے مہانوں سے ارادہ بد کیا پھر ہم نے ان کے دیدے

أَعْيَنَهُمْ فذوقوا عَذَابِي وَنَذِيرِي وَقَدْ صَبَّحَهُم

پہنم کرو پے (اور یہ کہہ پاکہ لو) اب میرا عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور ضرور صبح ہی صبح ان کو

اور ایک زوایت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں اور ان کے منہ پر اینس جس سے ان کے چہرے بگڑ گئے اور اس شہر کے کل بچوں والے اندھ بچے

۱۰۰ ۱۰۰



اور ایک زوایت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں اور ان کے منہ پر اینس جس سے ان کے چہرے بگڑ گئے اور اس شہر کے کل بچوں والے اندھ بچے

بِكْرَةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۚ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرِ ۝

ایک بار بار عذاب کے آکر ڈرا۔ (پھر ان کو یہ کہہ دیا کہ لو) اب میرے عذاب اور میرے ڈراؤ سے کاغزہ چکھو

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۚ وَلَقَدْ

اور ہم نے بصیحت کے لیے اس قرآن کو ضرور آسان کر دیا ہے تو آیا کوئی بصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون

جَاءَ الْفِرْعَوْنَ النَّذِيرِ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا

دلوں کے پاس ڈرائیو الے ضرور آئے (تو اسپر) انہوں نے ہماری کل نشانیوں کو جھٹلایا

فَاخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ۚ الْكَافِرُ كُفْرًا خَيْرٌ

تو ہم نے انہیں انکو ایسا لڑا ایسا کہ زبردست صاحب اقتدار لے ڈالا کرتا ہے۔ (اگر وہ قریش) آیا تمہارے کفار ان

مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۚ أَمْ يَقُولُونَ

(مذکورہ بالا آیتوں) سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے کتابوں میں چھٹکارا لیا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم

نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ۚ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ

بدلا لینے والے گروہ ہیں۔ عنقریب یہ گروہ ہزیمت دیا جائیگا اور یہ پیٹھ

الدُّبُرِ ۚ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ

دکھائینگے۔ بات یہ ہے کہ قیامت اُنکے وعدے کا دن ہے اور قیامت بڑی ہی سخت اور بڑی ہی

أَمْرٌ ۚ إِنَّ الْجُرْمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۚ يَوْمَ يُسْعَبُونَ

لغ پیڑ ہے۔ بیشک گناہگار (یہاں تو) گمراہی میں ہیں اور (وہاں) بھڑکتی آگ میں (ہونگے) جس دن کہ وہ آگ میں

فِي النَّارِ عَلَيَّ وَجُوهِهِمْ طُوفُوا مُّسْتَقَرًّا ۚ إِنَّا

اپنے چہروں کے بل گھسے جائینگے (اور ان کو یہ کہا جائیگا کہ تم جہنم کے چھو جائیگا کاغزہ چکھو

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ

ہر ایک چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارا حکم نہیں ہے مگر جیسے ایک لہک کا

بِالْبَصِيرِ ۚ وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۚ

جھپک جاتا۔ اور ہم تمہارے ہمسروں کو ضرور ہلاک کر چکے ہیں پس ہے بھی کوئی بصیحت پانچوالا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'بیکرہ عذاب مستقر', 'قمر', and 'الذکر'. The text is dense and covers the left side of the page.

۲۰

وہی

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'الرحمن' and other religious text.

قال فاخاطبكم

۱۳۸

الرحمن

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

اور ہر کام جو انہوں نے کیا تھا نوشتوں میں (جو وہاں ہے) اور ہر چھوٹا اور بڑا (محل)

مُسْتَطَرِّهٖ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي

لکھا ہوا ہے بالحقین پر بہزگار لوگ جنہوں میں اور نہروں میں ذی اختیار

مَقْعَدِ صَدِيقٍ ۝ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ ۝

بادشاہ کے پاس خوشنودی کی جگہ میں ہونگے۔

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ آيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

رحمن (د) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ

(خدا نے) رحمن نے قرآن (مجید) تعلیم فرمایا۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اسی نے اسکو

الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

بیان (کرنا) سکھایا۔ سورج اور چاند (مقرر) حساب پر (چلتے) ہیں۔ اور بیل اور درخت دونو

يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ اَلَّا

سجڑے میں ہیں۔ اور آسمان کو اُس نے بلند کیا اور میزان کو نیچے رکھا تاکہ تم

تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

میزان کے بارے میں سرکشی نہ کرو۔ اور انصاف سے وزن کو ٹھیک (ٹھیک) جاچو اور میزان کو

الْمِيزَانَ ۝ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ۝ فِيهَا فَالِكِهْمُ ۝

نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور زمین کو اُس نے لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں سوکے بھی ہیں

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۝ وَالرَّيْحَانُ

اور قبیلی دار (نبھور کے درخت بھی) اور بھوسے والا دانہ اور خوشبو دار پھول ہیں۔



Handwritten notes on the right margin, including the word 'سجود' and other religious text.

Handwritten notes at the bottom of the page, including the word 'الرحمن' and other religious text.

فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

پھر تم دو دنوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو کھیرے جیسی لکھناتی سٹی سے

كَالْفَخَّارِ ۚ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارٍ مِّنْ تَارٍ ۚ فَيَا

پیدا کیا۔ اور اسی نے جنوں کو اگل کے شعلے سے پیدا کیا پھر تم دونوں

الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا مالک ہے

فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

پھر تم دو دنوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اُس نے دور یا بادیے وہ باہم ملتے ہیں (اور)

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي ۚ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہے کہ ایک دوسرے پر نیا دتی نہیں کر سکتا۔ پھر تم دو دنوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے

يَخْرُجُ مِنْهَا التُّرَابُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

ان دونوں سے مٹی اور موتی نکلے آ رہتا ہے۔ پس تم دو دنوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں

تَكذِّبُونَ ۚ وَلَهُ الْجُودَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ

جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں کے مانند اونچے اونچے پہاڑ ہیں اسی کہیں۔

فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

پھر تم دو دنوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ہر شخص جو زمین پر ہے فنا ہو گیا ہے۔ اور

يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۚ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

تمہارے پروردگار کی ذات صاحب جلال و عزت باقی رہے گی۔ پھر تم دو دنوں اپنے پروردگار کی

رَبِّكُمْ تَكذِّبُونَ ۚ لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ جو (جہاں) آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اسی سے مانگتے رہتے ہیں۔

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُمْ آيَاتٌ فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْمِنُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانُونَ

وہ ہر روز ایک نئی حالت میں ہے۔ پھر تم دو دنوں اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page, continuing the commentary.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, providing further details and interpretations.

بہت سے لوگوں نے اس آیت کو سمجھنے میں مشکل محسوس کی ہے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم نے اس آیت کے الفاظ کو لفظ بہ لفظ سمجھا دیا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔

سَنَفِرُ لَكُمْ أَيْهِ الثَّقَلَيْنِ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ات دو نو گروہ ہوا، ہم غریب تمہارے حساب کو کفار سے ہوجائے گا۔ پھر تم دو نو اپنے پروردگار کو کون کونسی نہیں

تَكذِّبِينَ ۚ يَعْمُرُ الْجَنَّةَ وَالْأَنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ

جھٹلاؤ گے؟ اسے گروہ جن وانس اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تم آسمانوں کے اور زمین

تَنْفِدُوا مِنْ أقطارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاَنْفِذُوا

کے کناروں سے نکل جاؤ تو جاؤ نکل جاؤ۔

لَا تَنْفِدُونَ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكُمْ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبِينَ

حالانکہ بغیر غلبہ (پالنے) تم نکل نہ سکو گے۔ پھر تم دو نو اپنے پروردگار کی کون کونسی نہیں جھٹلاؤ گے؟

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن تَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ

تم دو نو پر آگ کی لپٹ اور بچھڑا ہوا تانبا بھیجا جائیگا پس تم دو نو روک نہ سکو گے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۚ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ

پھر تم دو نو اپنے پروردگار کی کون کونسی نہیں جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھینکا اور

تَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَالدَّهَانِ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ

جب سرخ نرمی کی طرح لال ہوجائیگا۔ تو تم دو نو اپنے پروردگار کی کون کونسی نہیں جھٹلاؤ گے؟

فِيَوْمِئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ۚ فَبِأَيِّ

پھر اُس دن نہ تو انسان سے اُسکے گناہوں کی بابت پوچھا جائیگا اور نہ جن سے۔ پھر تم دو نو

الْآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۚ يَعْرِفُ الْجُرْمُونَ بَسْمِهِمْ

اپنی پروردگار کی کون کونسی نہیں جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنی اپنی جہالتوں سے بھجان لے جائیگا

فَيُؤَخِّدُهُمْ فِي التَّوَّاصِي وَالْأَقْدَامِ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

پھر ایڑی چونی سے گرفتار کیے جائیں گے۔ پھر تم دو نو اپنے پروردگار کی کون کونسی نہیں

تَكذِّبِينَ ۚ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْجُرْمُونَ ۚ

اس آیت کے الفاظ کو لفظ بہ لفظ سمجھا دیا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔

يُطَوَّقُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَمِيمَانٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ابھوہ اُسکے اور کھولتے پانی کے مابین پڑے بھرینے۔ پھر تم دونو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں

تُكذِّبِينَ ۚ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ

جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے پروردگار کی حضور میں کھڑے ہونے کو ڈرا اسکو دوباغ ہیں۔ پھر تم دونو اپنے پروردگار

رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۚ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ طرح طرح کی نعمتوں والے۔ پھر تم دونو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں

تُكذِّبِينَ ۚ فِيهَا عَيْنٌ مُّجْتَمِعِينَ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ

جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دوپہنے بستے ہیں۔ پھر تم دونو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟

فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ

ان دونوں میں ہر سیوہ دودو قسم کا ہوگا۔ پھر تم دونو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟

مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَاتُ

وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے پیچھے ہونگے جن کے استر ریشمی ہونگے اور سوسے ان دونو

الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۚ فِيهِنَّ

باغوں کے جھکے ہوئے ہونگے۔ پھر تم دونو اپنے رب کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ان جناتوں میں

قُصُورٌ وَالطَّرِيقُ لَمْ يَلْبِسْهُنَّ إِسَافًا وَلَا جُنَاحًا ۚ

(غیر سے بجا لپٹے شوہروں پر) نظر کی روکنے والی حوریں ہونگی جن میں ان سے پہلے کسی انسان (جو ہوا ہوگا اور کسی جن کے

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۚ كَانَتْ هُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ

پھر تم دونو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہوتی۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۚ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

پھر تم دونو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ اور

الْإِحْسَانُ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ۚ وَمِنْ دُونِهِمَا

ہو سکتا ہے؟ پھر تم دونو اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ دوباغ

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

۲

کلمہ

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary and providing additional context or translations.

۱۱۱۲

قال فما خطبكم

۶۵۲

الرحمن

جَنَّتِنِ فَيَايَا الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا تَكْذِبُنِ مَدَامَتْنِ فَيَايَا
 اور ہوئے۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی قسمیں جھٹلاؤ گے؟ دونوں برسے کہ جن کو ہوتے ہیں پھر تم دونوں

الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا تَكْذِبُنِ فِيهِمَا عَيْنِنِ نَصَاخَتْنِ فَيَايَا
 اپنے پروردگار کی کون کونسی قسمیں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دوپہلے آیتے ہوئے۔ پھر تم دونوں

الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا تَكْذِبُنِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَحْلٌ وَرُمَّانٌ
 اپنی پروردگار کی کون کونسی قسمیں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور خرے اور انار ہوتے

فَيَايَا الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا تَكْذِبُنِ فِيهِمْ خَيْرٌ حَسَانٌ
 پھر تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کونسی قسمیں جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوتی

فَيَايَا الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا تَكْذِبُنِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ
 پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی قسمیں جھٹلاؤ گے؟ (یعنی عورتوں جو جنوں میں چھپی ہوئی

فِي الْخِيَامِ فَيَايَا الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا تَكْذِبُنِ لَمْ
 ہوئی۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی قسمیں جھٹلاؤ گے؟ جن کو

يَطْمِئِنُّنَّ إِسْقَابُهُمْ وَلَا جَانٌ فَيَايَا الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا
 ان سے پہلے نہ کسی آدمی نے جگوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی

تُكْذِبُنِ مُتَكِينٌ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ
 نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اونچے اونچے سبز فزوں پر اور خوبصورت زمینی قالینوں پر

عَبْقَرِيَّ حَسَانٌ فَيَايَا الْأَعْرَبِ رَيْكَمَا تَكْذِبُنِ
 نیچے کاٹے جیسے ہوتے۔ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کونسی قسمیں جھٹلاؤ گے؟

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 تمہارے صاحب عزت و جلال پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے۔

سِوَةٌ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتْعُونَ آيَةً
 مکہ کی واقعہ کی سِتْعُونَ آیتیں



کتابتِ مصحف

قال فما خطبكم... جنتن فیا ای الاعراب... حور مقصورات... الخيام... طمئنن اسقابهم... تکذبن متکین... عبقری حسان... تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام... سیوة الواقعة مکیة... ایات حسانہ ۹۶... حور ماکہ... ۱۶۹۸

جنتن فیا ای الاعراب... حور مقصورات... الخيام... طمئنن اسقابهم... تکذبن متکین... عبقری حسان... تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام... سیوة الواقعة مکیة... ایات حسانہ ۹۶... حور ماکہ... ۱۶۹۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن (و) رحیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لَوْفِقِهَا كَاذِبَةٌ ۖ

جب قیامت واقع ہو جائے جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۚ إِذَا رَجَبَتِ الْأَرْضُ رَجَابًا ۚ

ادھ اپست کنز الی الی اور بند کرنا الی الی جس وقت زمین ایسی ہلنی جائیگی جیسا کہ ہلاؤ مابین کانوی اور بند کرنا الی الی

بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ فَكَانَتْ هَبَاءً مُتَّبَثًا ۚ وَكُنْتُمْ

دیجے جائیگی جیسا کہ اکھاڑ دیے جائیگا الی الی پھر وہ پھیلا ہوا غبار ہو جائیگا اور تم

أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۚ فَاصْحَبِ الْمُؤْمِنَةَ مَا أَصْحَبِ

تین گروہ ہو جاؤ گے پس دائیں طرف والے کیا کہنے دائیں طرف

الْمُؤْمِنَةَ ۚ وَاصْحَبِ الْمُشْمَكَةَ مَا أَصْحَبِ الْمُشْمَكَةَ ۚ

دالوں کے۔ اور بائیں طرف والے جھوٹ گئے نصیب بائیں طرف والوں کے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۚ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ فِي

اور آگے بڑھنے والے وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ نعمت والی جنتوں میں سترت بارگاہ تو

جَنَّتِ النَّعِيمِ ۚ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَلِيلٌ مِّنَ

دوبی ہیں۔ یہ پہلوں میں سے بہت سے ہیں۔ اور پچھلوں میں سے

الْآخِرِينَ ۚ عَلَى سُرٍّ مَّوْضُونَةٍ ۚ مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا

تھوڑے سے۔ سونے کے بے ہونے جڑاؤ تختوں پر آئے سائے بچے لگائے بیچے

مُتَقَبِّلِينَ ۚ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ

پورے۔ ہمیشہ رہنے والے لڑکے گلاس اور گلیاں اور ایسی شراب کے

يَا كُؤُوبٌ وَابْرَاقٌ ۚ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۚ لَا يَصَدْعُونَ

جام لے ہوئے ان کے پاس آئے جاتے رہتے۔ جس سے نہ آگے نہ پیچھے اور کبھی اور کبھی

واقعة

جنت

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin of the page.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

Handwritten notes at the very bottom of the page, likely a summary or concluding remarks.

عَنْهَا وَلَا يَنْزِعُونَ ۚ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَدُّونَ ۚ وَ

اور نہ اُٹکے ہوش و حواس گم ہونگے۔ اور پہل وہ لائینگے جن کو یہ پسند کریں۔ اور

لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۚ وَحَوْرٍ عَيْنٍ ۚ كَأَمْثَالِ

پرندوں کا گوشت ایسا کھیا جائے۔ اور بڑی بڑی آنکھوں کی حویریں ایسی جیسے چمچ

الذُّلُوقِ الْمَكْنُونِ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ

ہونے سوتی چونکہ مل یہ کیا کرتے تھے یہ اس کا عوض ہوگا۔ سوائے سلام اور سلام کہتے

فِيهَا نَغْوًا ۚ وَلَا تَأْتِيهِمْ ۚ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا ۚ وَاصْبِرْ

وہ جنت میں نہ کوئی لغو بات سنیے اور نہ کوئی گناہ کی بات اور دانے

الْبَيْنِ ۚ مَا اصْحَبَ الْبَيْنِ ۚ فِي سِدْرٍ مَّقْضُودٍ ۚ وَظِلِّ

ہاتھ والے کیا کتنے دانے ہاتھ والوں کے وہ بنیر کاٹوں کی جمل پوتی پر یوں ہیں ہونگے اور یہ

مَنْضُودٍ ۚ وَظِلِّ قَمُودٍ ۚ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ۚ وَفَاكِهَةٍ

کیلوں میں اور پھیلے ہوئے ساگے میں اور پتے ہوئے پانی میں اور بہت سے

كَثِيرَةٍ ۚ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۚ وَفُرُشٍ

بوسے میں جو نہ ختم ہوگا اور نہ روکا جائیگا۔ اور اونچے اونچے فرشوں پر ہونگے اور

مُرْوَعَةٍ ۚ اِنَّا اَنْشَا لِهِنَّ اِنْشَاءً ۚ فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا ۚ

ہی ان کو پیشی ہم نے یقیناً انکو بالکل نیا پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو کوریاں بنا

عَرَبًا ۚ اَتْرَابًا ۚ لِاصْحَابِ الْبَيْنِ ۚ ثَلَاثَةٌ مِّنْ اُولٰٓئِكَ ۚ

دلائل الیاں اور ہمیں خاص کر دانے ہاتھ والوں کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ بہت سے پہلوں میں سے ہونگے

وَتِلْكَ مِنْ الْاٰخِرِيْنَ ۚ وَاصْحَابِ الشِّمَالِ ۚ مَا اصْحَابُ

اور بہت سے پھلوں میں سے ہونگے۔ اور ان میں ہاتھ والے کیا بڑی گت ہوگی انہی ہاتھ

الشِّمَالِ ۚ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۚ وَظِلِّ مِّنْ يَّمُومٍ ۚ لَا

دالوں کی۔ آگ کی پیش میں اور کھولنے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہونگے۔ اور

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'مکمل' (Mukmil) stamp.

Handwritten marginal notes at the top of the page.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

یوم النہد فیہ تفسیر مانی میں ایک نزل کے ضمن میں دو سامان جو کسی آفتوالے کے لیے اُس کی عزت و ازلت کر لے متیا گیا جائے۔ تفسیر تہی میں ایک
 سلمیٰ ہے اور وہ ہے کہ اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے
 پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے

قال فما خطبکم

الواقعة

بَارِعُوا وَلَا كَرِيمٌ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۝

شعبانہ کا اور نہ نفع بخش۔ بیشک وہ اس سے پہلے بڑی آسائش میں تھے۔

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۝

اور بڑے بڑے گنہگاروں پر اصرار کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ

إِنذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۝ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝

کیا جب ہم مہر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو آیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟

أَوْ آبَاءُ نَا أَوْلَادٍ ۝ قُلْ إِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝

آیا ہمارے پہلے باپ دادا اٹھائے گئے؟ تم یہ کہو کہ پہلے اور پچھلے

لَجْمُوعُونَ ۝ لِي مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْتَانَا

ایک مقرر دن کے معین وقت پر ضرور جمع کر لیے جائیں گے۔ پھر تم اسے گمراہی

الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ ۝ لَا يَكُونُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ زُفُورٍ ۝

اے جھٹلائیوں! تمہوڑ کے درخت میں سے کھائیوں والے اور

فَاتِحُونَ مِمَّا الْبَطُونَ ۝ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝

اسی سے پیٹ بھر لیا جائے ہو گے۔ پھر اُس کے اوپر سے کھولنا پانی پینے والے

فَشَارِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ ۝ هَذَا نَزْلُ يَوْمِ الدِّينِ ۝

اور پیاسے اونٹوں کی سی پھل پینے والے ہو گے۔ جزاؤ سزا کے دن یہ ان کی سمانی ہوئی۔

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلِمَ لَا تُصَدِّقُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفَرْتُمْ ۝

ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ آیا تم نے غور کیا کہ جو مہنی تم (جہم میں) پہناتے ہو

أَنْتُمْ مَخْلُوقَةٌ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ

کیا تم اُس سے آدمی کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے مابین موت کو

الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ۝ عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ أَمْثَالَكُمْ ۝

مقرر کر دیا ہے اور ہم اس میں عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے بدلے میں تم جیسے اور بناویں اور

یوم النہد فیہ تفسیر مانی میں ایک نزل کے ضمن میں دو سامان جو کسی آفتوالے کے لیے اُس کی عزت و ازلت کر لے متیا گیا جائے۔ تفسیر تہی میں ایک سلمیٰ ہے اور وہ ہے کہ اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے

ماتزل

یوم النہد فیہ تفسیر مانی میں ایک نزل کے ضمن میں دو سامان جو کسی آفتوالے کے لیے اُس کی عزت و ازلت کر لے متیا گیا جائے۔ تفسیر تہی میں ایک سلمیٰ ہے اور وہ ہے کہ اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے پندرہ سال کی عمر عطا کی جائے گی اور اگر کسی نے اس دن کو روزہ رکھا تو اسے

بہت سے لوگ اس آیت کو سمجھنے میں توفیق نہ پا رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے اس کو شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر انسان شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے اس کو شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر انسان شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

نُشِئْتُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ

تم کو اس حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے۔ اور پہلی پیدائش کو تو تم یقیناً سمجھ گئے ہو

فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنْتُمْ

بہر اسکو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ آیات نے اس میں بھی غور کیا کہ جو زمین تم بہتے ہو۔ کیا تم اس کو

تَزْرَعُونَ ۚ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

اگانے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو پورا پورا کر دیتے

فَقَلَّمُمْ تَفْلُهُونَ ۝ إِنَّا لَمَعْرِضُونَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

پھر تم نہیں ہی بناتے رہ جاتے کہہ رہے تو ڈنڈ پڑ گیا۔ بلکہ ہم (تو) بربیب لوگ ہیں۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ

آیات نے اس پانی کے بارے میں بھی غور کیا جسے تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اسکو بادلوں سے

الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ آجَا فَلَئَلَا

اتارے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑا دکھاری کر دیتے پھر تم شکر

تَشْكُرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمُ

کیوں نہیں ادا کرتے؟ آیات نے اس آگ کے بارے میں بھی غور کیا جسے تم سلگاتے ہو۔ کیا اگلے (انہی میں) کو آفت

شَجَرَتَاهُمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَآيَةً

کو تمہیں پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ جسے اسکو (آتش جہنم کا) یاد دلائیے اور جو کچھ کر رہے والوں کو

مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ فَلَا

بے نفع کھیز قرار دیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظمت والے خدا کے نام کی تسبیح پڑھو۔ پس تم نے

أَقْسَمُ بِمَوْعِدِ الْجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ

تاروں کے گرنے کی جگہ کی اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت ہی بڑی

عَظِيمٌ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝

بیک نفع دینے والا قرآن الکریم ضرور پوشیدہ نوشتہ میں ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے اس کو شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر انسان شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے اس کو شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر انسان شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

بہت سے لوگ اس آیت کو سمجھنے میں توفیق نہ پا رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے لیے اس کو شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر انسان شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔

لَا يَمْسُهَا إِلَّا الْمَطْهُرُونَ ۖ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

جسکو سوائے ان لوگوں کے جو پاک کر دیے گئے ہیں کوئی چھو تاہی نہیں۔ تمام عالموں پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔

أَفِيْهِذَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مَدْهِنُونَ ۖ وَتَجْعَلُونَ

کیا تم اسی بات کے مستحق کاٹی کرتے ہو؟ اور اپنی روزی کا شکر یہ اسی بات کو

رَزَقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ۖ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ ۖ

قرار دیتے ہو کہ جھٹلایا کرو۔ پھر اس وقت تمہارا قابو کیوں نہیں چلتا جبکہ جان وطن تک آ پہنچی ہے۔

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ

اور تم اس وقت ہڑے پڑے ہو کھانچا کرتے ہو۔ اور ہم اس (موت) کی نسبت تم سے زیادہ قریب ہیں

وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ۖ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۖ

لیکن تم کو سوجھتا ہی نہیں۔ پھر اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ

تو اگر تم سچے ہو تو اس (جان) کو لوٹا کیوں نہیں لاتے؟ بس اگر وہ مشرمان بارگاہ

الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ۖ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ

سے ہے تو (اس کے لیے) رات بادل خوشبو ہے اور نعمت والی جنت ہے اور اگر وہ

كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْعَيْنِ ۖ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ أَصْحَابِ الْعَيْنِ ۖ

راہنی طرف والوں میں سے ہے تو راہنی طرف والوں سے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكذِّبِينَ ۖ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنَ الْمُكذِّبِينَ ۖ فَذَلِ

اور اگر وہ جھٹلانے والے (اور) گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہاتھ کی ممانی

حَيْمُورٌ ۖ وَتَصَلِيَةٌ كَاجِمٌ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌّ

ہے اور جہنم میں جانا ہے (جو کچھ بیان کیا گیا) یہ ضرور حقیقی یقین خبر

الْيَقِيْنَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۖ

جس پر ایمان لائے رسول تم اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھو۔

تسبیح

تسبیح

تسبیح

Vertical marginal notes on the left side of the page, containing various religious and scholarly commentary.

Vertical marginal notes on the right side of the page, continuing the commentary.

Horizontal marginal notes at the bottom of the page, providing additional context or translation.

انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اور ان نعمتوں کو اپنے فضل سے ہی عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ان نعمتوں کو اپنے لیے ہی رکھ لیتا ہے۔ اور ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کرے۔

الحديث

۸۵۸

قال فما خطبكم

سورة الحکیمات تسع وعشرون آیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (ترجمہ کرتا ہوں)
 اَسْمَانِ مِیْنْ اُوْر زَمِیْنِ مِیْنْ وِیْ (جہاں کچھ ہے وہ خدا کی پاکی یلین کرتا ہے اور خدا غالب (اور حکمت و طاقت کے ساتھ)
 لَهٗ مٰلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَهُوَ عَلٰی
 اَسْمَانِیْنَ كِیْ اُوْر زَمِیْنِ كِیْ بَادِشَاهِتْ اِسْمٰی كِیْ هَیْ وَیْ جَلٰلًا هَیْ اُوْر وَیْ مَارُتًا هَیْ اُوْر وَیْ هَرْجَیْ هَرْجَیْ هَرْجَیْ
 كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
 (ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہی ہر جہت سے آگاہ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ وہی ہے جسے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن
 فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَكْفُرُ فِی
 میں پیدا کیا پھر عرش پر (اس کا علم) غالب آیا۔ وہ اسکو بھی خوب جانتا ہے جو کچھ
 الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرَبُ
 زمین میں داخل ہوتا ہے اور اسکو بھی جو اس سے نکلتا ہے اور اسکو بھی جو آسمان سے اترتا ہے اور اسکو بھی جو کچھ
 فِیْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَآ كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ
 آسمان میں چہ جگہ جاتا ہے اور جہاں کہیں تم ہوئے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرو گے اللہ اس کا گواہ ہے۔
 لَهٗ مٰلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَلِیُّ اللّٰهُ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ
 آسمانوں کا اور زمین کا اختیار اسی کو ہے اور کل سلطنت کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔
 یُعْدِلُ الْیَلَّیْلُ فِی النَّهَارِ وَیُوْرِیْجُ النَّهَارُ فِی الْیَلِّیْلِ وَهُوَ
 وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور دنوں کے

انسانی دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کر دی ہیں۔ اور ان نعمتوں کو اپنے فضل سے ہی عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ان نعمتوں کو اپنے لیے ہی رکھ لیتا ہے۔ اور ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کرے۔

سورة الحکیمات تسع وعشرون آیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ترجمہ کرتا ہوں)

اَسْمَانِ مِیْنْ اُوْر زَمِیْنِ مِیْنْ وِیْ (جہاں کچھ ہے وہ خدا کی پاکی یلین کرتا ہے اور خدا غالب (اور حکمت و طاقت کے ساتھ)

لَهٗ مٰلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَهُوَ عَلٰی

اَسْمَانِیْنَ كِیْ اُوْر زَمِیْنِ كِیْ بَادِشَاهِتْ اِسْمٰی كِیْ هَیْ وَیْ جَلٰلًا هَیْ اُوْر وَیْ مَارُتًا هَیْ اُوْر وَیْ هَرْجَیْ هَرْجَیْ هَرْجَیْ

كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

(ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہی ہر جہت سے آگاہ

وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ وہی ہے جسے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن

فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَكْفُرُ فِی

میں پیدا کیا پھر عرش پر (اس کا علم) غالب آیا۔ وہ اسکو بھی خوب جانتا ہے جو کچھ

الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرَبُ

زمین میں داخل ہوتا ہے اور اسکو بھی جو اس سے نکلتا ہے اور اسکو بھی جو آسمان سے اترتا ہے اور اسکو بھی جو کچھ

فِیْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَآ كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ

آسمان میں چہ جگہ جاتا ہے اور جہاں کہیں تم ہوئے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرو گے اللہ اس کا گواہ ہے۔

لَهٗ مٰلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَلِیُّ اللّٰهُ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ

آسمانوں کا اور زمین کا اختیار اسی کو ہے اور کل سلطنت کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔

یُعْدِلُ الْیَلَّیْلُ فِی النَّهَارِ وَیُوْرِیْجُ النَّهَارُ فِی الْیَلِّیْلِ وَهُوَ

وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور دنوں کے

انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اور ان نعمتوں کو اپنے فضل سے ہی عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ان نعمتوں کو اپنے لیے ہی رکھ لیتا ہے۔ اور ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کرے۔

انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اور ان نعمتوں کو اپنے فضل سے ہی عطا کرتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ان نعمتوں کو اپنے لیے ہی رکھ لیتا ہے۔ اور ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کرے۔

عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَانْفِقُوْا

مال کا جاننے والا وہی ہے۔ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو۔

فَمَا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

پہلوں میں اس کے ٹکوں کیوں کا جائیں بنایا ہے انکا ایک حصہ اسکی راہ میں خرچ کرو پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے

وَاَنْفِقُوْا الصَّالِحِیْنَ اَجْرٌ لِّكُمۡ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

اور انہوں نے اسکی راہ میں خرچ کیا انکے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم میں سے جو کیا گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے

وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اٰخَذْتُمْ مِّثَاقَهُ

حالانکہ رسول تکوید دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم ماننے والے ہو تو خدا سے تم سے

لَاَنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ هُوَ الَّذِيْ يَنْزِلُ عَلٰی عَبْدٍ اٰیٰتٍ

تم کو کسی کی بات بجز عمدہ لگاؤ۔ وہ وہی ہے جو اپنے بند سے ہر کلمہ نشانیاں نازل کرتا

بَيِّنٰتٍ لِّخُرُوجِكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ

ہے تاکہ تمکو دکھ کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال لائے۔ اور یقیناً اللہ تمہارے بارے میں

لَرءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۗ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَبِئْسَ

بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو کیا گیا ہے کہ تم راہ خدا میں کوئی چیز خرچ نہیں کرتے حالانکہ

مِيْرٰثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ

آسمانوں کی زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ تم میں سے جس نے خرچ (کر) سے پہلے (راہ خدا میں) خرچ کیا

مِّنْ قَبْلِ الْفِتْرِ وَقَاتِلٌ اُوْلٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ

اور جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ ان سے جنہوں نے بعد خرچ خرچ کیا اور جہاد کیا

اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَقَاتَلُوْا ۗ وَكَلَّا وَعَد اللّٰهُ الْحَسَنٰی ۗ وَاللّٰهُ

درجہ میں کہیں بڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اجر نیک کا وعدہ تو سہی ہو گیا ہے اور جو

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَيْرٌ ۗ مِّنْ ذٰلِكَ الَّذِيْ يَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا

تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض سے

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.

بیت

بیت

وہ روزوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور آئے آگے اور آگے داہنے ہاتھ دوڑتا جا رہا ہے (اُسے کہا جا رہا تھا کہ) آج تمہاری

قال فاطمہ

الحديث

حَسَنًا فِضْعَةً لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ

دے کہ خدا اسی عملِ خالصے کوئی گناہ اور اس کو نفع بخش اور بھی ہو۔ جس دن تم مومن مردوں اور

وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرًا مِّنْ

مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور آئے آگے اور آگے داہنے ہاتھ دوڑتا جا رہا ہے (اُسے کہا جا رہا تھا کہ) آج تمہاری

الْبُيُوتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ

خوشخبری ہے مین وہ جنتیں جنکے نیچے نہیں بہتی ہیں تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہی تو

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ

وہ بڑی کامیابی ہے۔ اُس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان لائیں انوں سے

لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا وَانفَكُوا مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا

یہ کہنے کہ ذرا ہمارا (موسیٰ) انتظار کرو کہ ہم (موسیٰ) تمہارے نور سے فائدہ اٹھالیں۔ کہا جا رہا تھا کہ تم چھپ چھپ کر

وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورَةٍ مِّنْ بَابِ ط

ادھوں کو نور ڈھونڈ لو پھر ان (مومنین و منافقین) کے امین ایک ٹھیلے قائم کر دی جائیں جس میں ایک واہنہ ہوگا۔

بِاطْنِهِ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرًا مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ۝

اُسکے اندر کی طرف اُس میں رحمت ہوگی اور اُس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔

يَنَادُونَهم اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ

وہ (منافق) ان (مومنین) کو پکار کر کہتے کہ کیا تم ہمارے ساتھ نہ تھے وہ جواب دیتے کہ ہاں تمہیں تھے نہ آج آپ کو

انفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ

آزادش میں ڈالو اور تم (مومنین) کو حق میں نہ بلو (بلکہ) انتظار کیا اور تم شک میں پڑ گئے اور تمہاری آنکھوں اور دلوں کو دبا دیا تمہارے

جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَكَمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ

قیامت آگئی اور اللہ کے بارے میں شیطان تمکو دھوکے ہی دیتا رہا۔ سچا کے دن نہ تم سے کوئی سزاؤں

مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ

لایا جا رہا اور ان سے بھی جو کافر ہو گئے تھے تمہارا ٹھکانا آگ ہی ہے۔

یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور ان کو صحابہ کرام نے سنا ہے اور ان کو روایت کیا ہے اور ان کو

هِيَ مَوْلَاكُمْ وَوَيْسَ لِلصَّيْرِ ۝ الْمَيَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا

وہی تمہاری مالک ہے اور وہی سبکداری بازگشت ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اس وقت

أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا

نہیں آیا ہے کہ ان کے دل خدا کی یاد کے لیے اور جو کچھ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے اسکے لیے کھیل جائیں اور وہ

يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ

ان لوگوں کے مانند ہو جائیں جنکو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک زمانہ

الْأَمَدِ فَخَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثُرَ مِنْهُمْ فَسْقُونَ ۝

گزر گیا پس ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدِيبَتَا

ابینوب جان لو کہ اللہ زمین کو اسکی موت کے بعد ضرور زندہ فرمایگا بیشک بٹنے والے

لَكُمْ وَالآيَاتُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ إِنَّ الْمَصْدِقِينَ

ہے آیتوں کو کھول کر بیان کر دیتا تاکہ تم سمجھو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد

وَالْمَصْدِقَاتُ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ

اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے خدا سے قرض حسنہ دیا ان کے لیے دو چند کر دیا جائیگا

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اور ان کے لیے نفع بخش اجر ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وہی تو اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورَهُمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

انکا اجر اور انکا تور انہی کے لیے ہوگا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور جھٹلایا

بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحُجُورِ ۝ أَعْلَمُوا أَنَّمَا

وہی تو جہنمی ہیں۔ (یہ) خوب سمجھ لو کہ

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script, possibly a reference or a specific note related to the text.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom left corner of the page.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary.

الحَيوة الدُّنْيَا لِعَيْبٍ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ

زندگانی دنیا سوائے کھیل کود اور آرائشی و پیرائشی اور آپس میں بڑائی مارنے کے اور مال اور مال

تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ آجَبٍ

کی زیادتی کی خواہش کرنے کے اور بچے بھی نہیں ہے۔ اسکی مثال بارش کی سی مثال ہے کہ اس

الْكَفَّارَاتِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَكُونُ

(کے ذریعے) سے نباتات کا پیدا ہونا کفار کو جب میں ڈالتا ہے پھر وہ لپکتی ہے پھر تم اسکو زرد ہونے کو پھر وہ

حَطَّاءٌ وَفِي الْأُخْرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ

چوڑ چوڑا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور

اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيوة الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

خوشنودی بھی اور زندگانی دنیا سوائے دھوکے کی شے کے اور کچھ (بھی) نہیں ہے

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض

كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا

آسمان و زمین (دونوں) کے عرض کے برابر ہے (اور) وہ انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

آپ کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَا أَصَابَ مَن مَّصِيبَةٍ

اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو مصیبت بھی زمین پر اور تمہاری ذات پر

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّ

گزرتی ہے قبل اس کے کہ ہم اسکو پیدا کریں وہ ہمارے پاس ایک نوشتہ میں رکھی

تَبَرَأَ أَهْلَانٌ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لَكِنَّا نَأْسُوا

ہوتی (موجود ہے۔ بلاشبہ یہ امر اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے ہمارے

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and translations for the main text.

عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اُس پر تو تم افسوس نہ کرو اور جو تم نے اپنے تم کو عطا کیا ہے اُس پر اُس سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ ہر گمراہ کو سیدھی باز

كُلٌّ مَخْتَلٍ فَخَوِيهِ الَّذِينَ يَنْجُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی گمراہی برتتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی برتنے کا

بِالْجُلِّ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ

مکرم دیتے ہیں۔ اور جو درگرواں ہو جائیگا تو اللہ ضرور صاحبِ حمد اور بے پروا ہے۔ بیشک تم

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

اپنے رسول گمراہیوں کے ساتھ بھیجے اور تمہیں ان کے ساتھ کتاب اور میزان

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

نازل کی تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں۔ اور تمہیں (خاص) لوہا نازل کیا جس میں

بِأَسْسٍ شَدِيدَةٍ وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

سخت خوف بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی اور یہ غرض بھی کہ اللہ یہ جان لے کہ اُسکی اور

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

اُسکے رسولوں کی بغیر دیکھے مددگار (کوئی) کرتا ہو بیشک اللہ صاحبِ قوت و غلبہ ہے۔ اور تمہیں ہم نے نوح کو

نوحًا وَآلِهٖمُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور ابراہیم کو بھیجا اور تمہیں ان دونوں اولاد میں نبوت و کتاب کو قرار دیا

فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٍ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ

بعض میں سے کوئی (کوئی) گمراہیت یافتہ اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان پر بھیجے ہمیں کشتیوں

آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَّبَعَتْهُ

پر اپنے (اور) رسول بھیجے اور اُنکے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اُنکو ہم نے اہل

الْإِنجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

عطا کی اور تمہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اُن کی پیروی کی

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'تاج' (Taj) written vertically.

۳۴

Handwritten notes at the bottom left corner.

Handwritten notes at the bottom right corner.

